

ياء متكلم إعراب

Earaab of Ya Mutakallim

ياء متكلم (اسم ضمير متصل) کے اعراب کے اعتبار سے خاص قواعد ہیں۔

There are specific rules related to E3raab for Ya Mutakallim (Ism Zameer Muttasil).

اگر کوئی اسم یاء متکلم کی طرف مضاف ہو تو تینوں حالتوں میں اس کی اعرابی حالت ایک ہی ہوگی۔ اور یاء متکلم کی مناسبت کی وجہ سے رفع، نصب، جر کے تمام اعراب مقدرہ ہوتے ہیں۔

If an Ism is Mudaaf to Ya Mutakallim, in all three cases it will appear in the same form. According to compatibility with Ya Mutakallim, all the Earaab of Rafa', Nasab and Jer are Muqaddarah (estimated).

هَذَا صَدِيقِي (یہ میرا دوست ہے) This is my friend.

رَأَيْتُ صَدِيقِي (میں نے اپنے دوست کو دیکھا) I saw my friend.

هَذِهِ السَّيْرَةُ لَصَدِيقِي (یہ گاڑی میرے دوست کے لیے ہے) This watch is for my friend.

اوپر کی مثالوں کی تحلیل کرتے ہوئے

مرفوع کے لیے "ضمة المقدره" منصوب کے لیے "فتحة المقدره" اور مجرور کے لیے "كسرة المقدره" کہیں گے۔

In the analysis of the above examples, we will have Dammatal Muqaddarah for Marfua', Fathatul Muqaddarah for Mansub and Kasratul Muqaddarah for Majroor.

اسماء الخمسة بھی جب یاء متکلم کے طرف مضاف ہوتے ہیں تو تینوں حالتوں میں اس کی اعرابی حالت ایک ہی ہوگی۔ اور یاء متکلم کی

مناسبت کی وجہ سے ان کے بھی (رفع، نصب، جر) کے تمام اعراب مقدرہ ہوتے ہیں۔

When AsmaaAlKhamisa are Mudaaf to Ya Mtakallim, here also the E3raab will appear to be the same and according to compatibility with Ya Mutakallim, all the Earaab of Rafa', Nasab and Jer are Muqaddarah (estimated).

أَخِي (میرا بھائی)

My brother

أَبِي (میرا باپ)

My father